

# قابل رسائی بنانا

ایس ڈبلیو بی ایچ (SWBH) این ایچ ایس (NHS) ٹرسٹ ایک ایسی ویب سائٹ فراہم کرنے پر کمر بستہ ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ ناظرین کے لئے قابل رسائی ہو، قطع نظر ٹکنالوجی اور قابلیت کے، بشمول معذور افراد کے، ایسے افراد جن کو بصری معذوری درپیش ہو اور وہ لوگ جو حرکی کمزوری اور ادراکی معذوری کا شکار ہوں۔

یہ ویب سائٹ ورلڈ وائڈ ویب کنورسٹیو ڈبلیو3 سی (W3C) ویب رسائی برائے مواد ہدایت نامہ 2-0 اے اے (AA) کے معیار پر پورا اترنے کی سعی کرتی ہے۔ یہ ہدایت نامہ ویب سائٹوں کو ہر ایک کے استعمال کے لئے سہل بنانے کے سلسلے میں راہنمائی مہیا کرتا ہے۔

یہ سائٹ اُن ضابطوں کو بروئے کار لا کر بنائی گئی جو ایچ ٹی ایم ایل (HTML) اور سی ایس ایس (CSS) کے لئے ڈبلیو3 سی (W3C) معیارات سے مطابقت رکھتے ہیں اور موجودہ براؤزرز میں درست طریقے سے دکھتی ہے۔ معیار کے مطابق ایچ ٹی ایم ایل/سی ایس ایس (HTML/CSS) ضابطے استعمال کر کے، مستقبل کے براؤزر بھی اسے درست طریقے سے دکھائیں گے۔

اگر آپ کو یہ ویب سائٹ دیکھنے میں کوئی مشکل درپیش ہو، اس ویب سائٹ کے قابل دسترس ہونے کے بارے میں اپنے تاثرات سے ہمیں مطلع کرنا چاہیں یا ہمارے معیارات برائے رسائی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہوں تو برائے مہربانی رابطہ کریں:

Communications Department

Sandwell & West Birmingham Hospitals NHS Trust,

City Hospital,

Dudley Road,

Birmingham.

B18 7QH

ٹیلی فون: +44 (0)121 507 5676

ای میل: [swbh.comms@nhs.net](mailto:swbh.comms@nhs.net)

## گوگل مترجم

اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ معلومات کا ترجمہ فوری طور پر انواع و اقسام کی زبانوں میں کیا جاسکے، ہم اپنی تمام ویب سائٹوں پر گوگل مترجم استعمال کرتے ہیں

ترجمہ اُن لائن خودکار ترجمہ کرنے والی سروس کی جانب سے کیا گیا ہے اور نتیجاً اس میں نقائص ہوسکتے ہیں۔ برائے مہربانی یہ ترجمہ صرف معمولی نوعیت کی راہنمائی کے لئے استعمال کریں۔ ایس ڈبلیو بی ایچ (SWBH) این ایچ ایس (NHS) ٹرسٹ اس سائٹ پر موجود ترجمہ شدہ مواد کے درست ہونے یا اُن ترجمہ شدہ مواد میں موجود معلومات پر انحصار کرنے کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔

اگر سائٹ پر موجود مواد کا ترجمہ آپ کو ایسی زبان میں درکار ہو جس میں یہ دستیاب نہیں ہے تو برائے مہربانی [komal.keshavala@nhs.net](mailto:komal.keshavala@nhs.net) پر ہم سے رابطہ کریں تا کہ ہم آپ کے لئے اس کا انتظام کرسکیں۔

## یہ سائٹ سُنیں

اس سائٹ کو قابل گویائی بنایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی کمیوٹر پر بلا قیمت سوفٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں اور سائٹ کو سُن سکتے ہیں۔

اس مفت سوفٹ ویئر کا نام براؤز آلاؤڈ (BrowseAloud) ہے اور اسے برطانیہ اور امریکہ میں 7000+ سے زائد ویب سائٹوں پر استعمال کیا جا رہا ہے۔

اس ویب سائٹ کو براؤز آلاؤڈ کی مدد سے سنیں

خواہ آپ سمارٹ فون استعمال کرتے ہوں، ٹیبلیٹ، پی سی یا میک استعمال کرتے ہوں، براؤز آلاؤڈ آپ کو پڑھائی کے لئے درکار آلات مفت فراہم کرے گا۔

براؤز آلاؤڈ کیا ہے؟

براؤز آلاؤڈ مصنوعات کا ایک ایسا پلندہ ہے جو ویب سائٹوں کو پڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ براؤز آلاؤڈ ویب سائٹ کے مواد کو اونچی آواز میں پڑھتا ہے اور یہ ہر لفظ واضح طور پر ادا کرتا ہے جبکہ اسے اعلیٰ کوالٹی میں انسانی آواز سے ملتی جلتی آواز میں بولا جاتا ہے۔

دوسری خصوصیات شامل ہیں:

- دوہرے رنگ سے متن کو نمایاں کرنا
- متن کو بڑا کرنے کا عمل
- بولنے والی آواز
- بولنے والا مترجم
- ایم پی 3 (MP3) بنانے والا
- سکرین ماسکنگ

7000 سے زائد ویب سائٹیں براؤز آلاؤڈ استعمال کرتی ہیں، چنانچہ اگر ایک بار یہ آپ کے آلے پر موجود ہو تو آپ ان تمام ویب سائٹوں کو بھی سن سکیں گے

براؤز آلاؤڈ کس کی مدد کرتا ہے؟

براؤز آلاؤڈ ویب سائٹ پر آنے والے ہر فرد کی مدد کرتا ہے جن کو آن لائن پڑھنے میں مدد درکار ہوتی ہے یا وہ لوگ جو پڑھنے کی بجائے ویب سائٹ پر موجود معلومات کو سُننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ براؤز آلاؤڈ ایسے لوگوں کے لئے خاص طور پر مفید ہے جو طباعتی معذوریوں مثلاً ڈسلیکسیا (dyslexia) یا معمولی بصری مسائل میں مبتلا ہوں اور وہ لوگ انگریزی جن کے لئے دوسری زبان ہو۔

ہم نے اپنی ویب سائٹ کو قابل گویائی کیوں بنایا؟

اپنی ویب سائٹ کو قابل گویائی بنانے کی وجہ سے یہ اُن لوگوں کو ہمارے مواد تک رسائی دینے کا ایک اضافی راستہ مہیا کرتی ہے جن کو پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ڈسلیکسیا یا آموزشی مسائل کا شکار ہوں، وہ لوگ جن کے لئے انگریزی اُن کی پہلی زبان نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص جو معمولی بصری کمزوری میں مبتلا ہو۔ اسے دوسرے سکرین ریڈرز کی جگہ لینے کے لئے نہیں بنایا گیا ہے۔

براؤز آلاؤڈ کی مصنوعات کے سلسلے میں مزید مدد حاصل کرنے کے لئے اُن کی ویب سائٹ پر براؤز آلاؤڈ کے بارے میں اکثر پوچھے جانے والے سوالات ایک نظر دیکھ لیں۔

براؤز آلاؤڈ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے

نیچے والے نقش کو کلک کریں اور آپ کو ایک بیرونی سائٹ پر لے جایا جائے گا جہاں پر آپ کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کرنے کے لئے مکمل رہنمائی مہیا کی جائے گی۔ ایک براؤز آلاؤڈ اُنکن آپ کی سسٹم ٹرے میں رکھ دیا جائے گا جو کہ آپ کے براؤزر کے نیچے داہنی جانب ہے۔